

## سٹی کو سوزن فینل سپورٹس پلبکس میں بجلی کی بچت والی اپ گریڈز کرنے کے لیے حکومت کینیڈا کی جانب سے فنڈنگ کی مد میں \$15.7 ملین سے زائد رقم موصول ہوئی ہے

برامپٹن، آن (19 جولائی 2022) – آج، عزت مآب ڈومینیک لی بلینک، منسٹر آف انٹرگورنمنٹل افیئرز، انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے سونیا سدھو، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن ساؤتھ اور مینر پیٹرک براؤن نے برامپٹن میں سوزن فینل سپورٹس پلبکس کے لیے ڈیپ انرجی ریٹرو فٹس کے لیے فنڈنگ کی مد میں \$15.7 ملین سے زائد کی رقم کا اعلان کیا۔

یہ فنڈنگ گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لانے اور سپورٹس پلبکس کی توانائی کی بچت کو بڑھانے کے لیے کئی اپ گریڈز کو ممکن بنائے گی۔ اس کام میں سہولت گاہ کے ریفریجریشن پلانٹس، HVAC سسٹمز، بلڈنگ آٹومیشن سسٹم اور روشنیوں کو اپ گریڈ کرنا شامل ہے۔ اس میں بجلی کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے بیٹری میں توانائی ذخیرہ کرنے کے ایک نظام اور حرارت کی منتقلی کے ذریعے کے طور پر زمین کو استعمال کر کے سہولت گاہ کو گرم اور ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک جیو تھرمل سسٹم کی تنصیب بھی شامل ہو گی۔ یہ ریٹرو فٹس اس سہولت گاہ کو کل صفر اخراج والی سہولت گاہ میں تبدیل کرنے کے لیے قدرتی گیس کے استعمال کو کم کریں گی اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں بڑی کمی لائیں گی۔

سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا ایک حصہ اس پرانے ہوتے تفریحی سنٹر کی دوبارہ بحالی کے مقصد سے تعمیر کی وجہ سے عوام کے لیے موجودہ طور پر بند ہے۔ سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر [پارکس اینڈ ریکریٹیشن ماسٹر پلان \(PRMP\)](#) کے زیر رہنمائی ہے اور کمیونٹی کی بہتر خدمت کے لیے ریکریٹیشن سنٹرز کو بحال کرنے کے سٹی آف برامپٹن کے منصوبے کا حصہ ہے۔

سٹی نے صفر کاربن والے ریٹرو فٹ کے لیے سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ریکریٹیشن سنٹر ہر سال تقریباً 1,135 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے، جو تقریباً 240 کارز کی جانب سے پیدا ہونے والے GHG اخراج کے برابر ہے۔

برامپٹن کے کمیونٹی سنٹرز کی تجدید کے منصوبے کے متعلق [یہاں](#) پر مزید جانیں۔ حکومت کینیڈا کے گرینڈ اینڈ انکلوسو کمیونٹی بلڈنگز پروگرام کے متعلق [یہاں](#) پر مزید جانیں۔

### اقتباسات

"سوزن فینل سپورٹس پلبکس میں بجلی کی بچت والی اپ گریڈز میں سرمایہ کرنے پر حکومت کینیڈا میں ہمارے شراکت داروں کا شکریہ۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ہم اپنی کاربن کی پیداوار کو کم کرنے اور استحکامیت میں رہنماء کردار ادا کرنے کے لیے وقف ہیں۔ یہ سرمایہ کاری ہمیں اپنے ایندھن کے استعمال میں کمی لانے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور رہائشیوں کو ایک ایسی جدید اور بجلی کی بچت والی سہولت گاہ فراہم کرنے میں مدد دے گی، جہاں پر وہ ہمارے زبردست تفریحی پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ایک صحت بخش اور فعال طرز زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن استحکامیت پر توجہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے پرانے ریکریٹیشن سنٹرز میں نئی جان بھرنے کے لیے وقف ہے، تاکہ اپنے رہائشیوں کو لچکدار، کئی مرتبہ، کئی نسلوں میں اور کئی موسموں میں استعمال کے قابل سہولت گاہیں فراہم کی جا سکیں، جن کے ذریعے وہ صحت بخش اور فعال طرز زندگی برقرار رکھ سکیں۔" ہم سوزن فینل سپورٹس پلبکس میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کینیڈا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم اس سہولت گاہ میں ایندھن کے استعمال اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"ایک ماحول دوست اور صحت بخش اور محفوظ شہر کے طور پر، ہم اپنے رہائشیوں کے لیے جدید تفریحی مواقع فراہم کرنے اور استحکامیت کو اپنے ذہن میں اولین درجہ دے کر اپنی سہولت گاہوں کی تجدید کرنے پر مرکوز ہیں۔ سوزن فینل سپورٹس پلبکس میں بجلی

کی بجٹ والی اپ گریڈز کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے پر حکومت کینیڈا کا شکریہ۔ ہم برامپٹن میں سرمایہ کاری لانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ اسی طرح مل کر کام کرتے رہیں گے۔"

- پال موريسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"سوزن فینل سپورٹس پلیکس کی اپ گریڈز برامپٹن کے رہائشیوں کو ایک جدید اور توانائی کی بجٹ کرنے والی سہولت گاہ فراہم کریں گی، جہاں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، پروگراموں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور فعال رہ سکتے ہیں۔ ہماری حکومت انفراسٹرکچر کے ایسے پراجیکٹس میں سرمایہ کاری جاری رکھے گی، جو ہماری کمیونٹیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہماری معیشت کو بڑھاتے ہیں۔"

سونیا سدھو، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن ساؤتھ منجانب عزت مآب ٹومینیک لی بلینک، منسٹر آف انٹرگورنمنٹل افیئرز، انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹ، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)